

البرکہ بینک (پاکستان) لمیٹڈ

ڈائریکٹرز کا جائزہ

البرکہ بینک (پاکستان) لمیٹڈ (دی بینک) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے 30 جون 2026ء کو ختم ہونے والی ششماہی کے لیے مختصر عبوری غیر مجتمع مالی گوشوارے پیش کرنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔

معاشی جائزہ

سال 2026ء کی پہلی ششماہی مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی سے متاثر رہی، جس کے نتیجے میں عالمی توانائی کی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوا اور عالمی اقتصادی منظر نامہ متاثر ہوا۔ ان بیرونی خطرات کے باوجود، پاکستان کی معیشت نے لچک کا مظاہرہ جاری رکھا، مالی سال 2026ء میں حقیقی GDP کی شرح نمو 3.7% ریکارڈ کی، جاری کھاتے کی پوزیشن مجموعی طور پر مستحکم رہی، اور زرمبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی۔ تاہم، اس عرصے کے دوران افراط زر کے دباؤ نے دوبارہ جنم لیا، جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ بڑھا کر 11.5 فیصد کر دیا۔

البرکہ بینک (پاکستان) لمیٹڈ کی مالی کارکردگی:

بینک کی نمایاں مالیاتی جھلکیاں درج ذیل ہیں:

مالیاتی جھلکیاں	30 جون 2026ء (ملین روپے)	31 دسمبر 2025ء (ملین روپے)
مجموعی اثاثے	286,325	311,923
سرمایہ کاری	113,441	103,674
اسلامک فنانسنگ اور متعلقہ اثاثے - نیٹ	125,677	135,966
کل ڈپازٹس	219,910	259,643
کل ایکویٹی	22,336	22,053

نفع اور نقصان کا اکاؤنٹ	جنوری - جون 2026ء (ملین روپے)	جنوری - جون 2025ء (ملین روپے)
قبل از ٹیکس منافع	1,727	2,675
بعد از ٹیکس منافع	699	1,335
بنیادی/تحلیل شدہ فی حصص آمدنی (روپے)	0.51	0.97

30 جون 2026ء کو ختم ہونے والی ششماہی کے لیے بینک نے 699 ملین روپے کا بعد از ٹیکس منافع حاصل کیا، جو فی حصص آمدنی (EPS) 0.51 روپے بنتی ہے۔ بینک نے 6.3% ایکویٹی پر منافع اور 0.5% اثاثوں پر منافع حاصل کیا، جو کم ہوتی منافع کی شرح کے ماحول کے باوجود مضبوط کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں کل آمدنی میں کمی آئی، جس کی بنیادی وجہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی

پالیسی ریٹ میں کمی کے بعد تاخیری ری پرائسنگ اثرات تھے۔ اس کے باوجود، بینک نے نان پرفارمنگ ایکسپوژرز سے خاطر خواہ وصولیاں حاصل کر کے منافع کو سہارا دیا۔

بینک نے کم لاگت اور کرنٹ ڈپازٹس کے حصول پر توجہ برقرار رکھی تاکہ کم ہوتی منافع کی شرح کے باعث اسپریڈز پر دباؤ کو کم کیا جاسکے، جبکہ مہنگے ڈپازٹس کو کم کرتے ہوئے ڈپازٹ مکس کو بہتر بنایا گیا۔ بینک کا فنانشنگ پورٹ فولیو بلیو چپ کارپوریٹ، کمرشل اور SME صارفین پر مشتمل ہے، جس کی تکمیل کنزیومر فنانشنگ کے بڑھتے ہوئے پورٹ فولیو سے ہے۔ نتیجتاً، بینک کے ایڈوانس کا ڈپازٹ کے مقابلے میں تناسب 60% رہا، جو بیلنس شیٹ کے موثر استعمال کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید یہ کہ، غیر فعال فنانشنگ (NPF) کی وصولی کے لیے بینک کی مجتمع کوششوں کے نتیجے میں NPF ریشو کم ہو کر 7.6 فیصد ہو گیا ہے۔

بینک کا کیپٹل ایڈیکوئیسی ریشو (CAR) 18.46% رہا، جو ریگولیٹری حد سے کافی زیادہ ہے۔

کریڈٹ ریٹنگ

31 دسمبر 2025ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے بینک کے مالیاتی گوشواروں کی بنیاد پر VIS کریڈٹ ریٹنگ کمپنی لمیٹڈ نے بینک کی طویل مدتی ریٹنگ 'AA-' اور مختصر مدتی ریٹنگ 'A-1' پر برقرار رکھی ہے۔ تفویض کردہ ریٹنگز کا آؤٹ لک 'مستحکم' برقرار ہے۔

اظہار تشکر

بورڈ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور شریعہ بورڈ سے اُن کی مسلسل رہنمائی اور تعاون کا خلوص دل سے اعتراف کرتا ہے اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ بورڈ بینک کے قابل قدر صارفین، شیئر ہولڈرز اور کاروباری شراکت داروں کا بھی اعتماد اور بھروسہ پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ آخر میں، ہم اپنے ملازمین کی لگن، وابستگی اور محنت کا اعتراف کرتے ہیں، جن کی خدمات بینک کی مسلسل کامیابی کے لیے بدستور بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔

منجانب بورڈ

اظہر عزیز ڈوگر
چیرمین

محمد عاطف حنیف
چیف ایگزیکٹو آفیسر

27 اگست 2026ء

اسلام آباد